

## ROOTWORDS OF SURAH AN NISA 110-115

سُوْءًا	يَجِدُ	يَكْسِبُ	إِثْمًا	خَطِيئَةً
س و ا	و ج د	ك س ب	ا ث م	خ ط ا
برا	پائے گا	کمائے گا۔ کرے گا	گناہ	خطا
Evil	He will find	Earns	Sin	A fault

يَرْمِ	بَرِيئًا	أَحْتَمَلَ	بُهْتَنًا	لَ+هَمَّتْ
ر م ي	ب ر ا	ح م ل	ب ه ت	لام التوكيد + ه م م
تھوپ دے گا۔ چسپاں کرے گا	بے گناہ پر	اس نے اٹھایا	بہتان	البتہ + ارادہ کر لیا تھا
throws	an innocent	he (has) burdened (himself)	(with) a slander	surely (had) resolved

طَائِفَةٌ	يُضِلُّوْا+كَ	يُضِلُّوْنَ	يَضُرُّوْنَ+كَ	عَلَّمَ+كَ
ط و ف	ض ل ل + ضمير	ض ل ل	ض ر ر + ضمير مفعول به	ع ل م + ضمير
ایک گروہ نے	بھکا دیں + آپ کو	وہ بھکاتے	وہ نقصان دے سکتے + آپ کو	سکھایا + آپ کو
A group	Mislead you	They mislead	They will harm you	Taught you

نُضِلُّ +هـ	يُشَاقِقِ	أَبْتَغَاءَ	إِصْلَاحٍ	نَجْوَى +هُمُ
ص ل ي + ضمير مفعول به	ش ق ق	ب غ ي	ص ل ح	ن ج و + ضمير
ہم جھونکیں گے + اس کو	مخالفت کرے گا	تلاش کرنے کو۔ چاہنے کو	اصلاح کا	سرگوشیوں + ان کی
We will burn him	opposes	seeking	conciliation	their secret talk